

# نیویارک شہر تعلیمی کونسلوں کے لیے انتخاب لڑیں



## اجتماعی اور شہرپیما تعلیمی کونسلیں کیا ہیں؟

تعلیمی کونسل میں خدمات انجام دے کر والدین کے پاس نیو یارک شہر کے اسکولوں میں پالیسیوں کو اور ترجیحات کو شکل دینے کے لیے ایک قوی آواز ہوتی ہے۔ چانسلر کو مشاورت دینے سے لے کر ضلعی مہتمم کے ساتھ براہ راست کام کرنے اور ضلعی تعلیمی پروگراموں اور ضروریات کا جائزہ لینے تک، 32 اجتماعی تعلیمی کونسلیں اور 4 شہر پیما تعلیمی کونسلیں تعلیمی پالیسی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ہمارے پبلک اسکولوں کو بہترین بنانے میں مدد دیتی ہیں۔

## اجتماعی تعلیمی کونسلیں (CECs)

CECs والدین کو ضلع کی سطح پر تعلیم پر اثر انداز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ 11 ووٹ ڈالنے والے ممبران ہوتے ہیں: پری کنڈرگارٹن تا گریڈ 8 کے طلبا کے 9 منتخب شدہ والدین (بشمول ایک انگریزی زبان متعلمین کا والدین اور ایک IEP طالب علم کا والدین)، اور 2 برو صدر کے نامزد کردگان۔

## شہر پیما تعلیمی کونسلیں

شہرپیما تعلیمی کونسلیں والدین کو خاص آبادیوں کے لیے تعلیمی پالیسی کو تشکیل دینے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ CECs کی طرح ان میں سے ہر ایک کونسل میں ووٹ ڈالنے والے 11 ممبران ہوتے ہیں (9 منتخب کردہ والدین اور 2 تقرر کردہ)، ماسوا شہر پیما کونسل برائے ہائی اسکول کے جس میں 13 (10 منتخب کردہ والدین اور 3 تقرر کردہ) ممبران ہوتے ہیں۔ ہر کونسل میں ایک ووٹ نہ ڈالنے والا ہائی اسکول طالب علم بھی ہوتا ہے۔

## 4 شہر پیما تعلیمی کونسلیں ذیل ہیں:

- شہرپیما تعلیمی کونسل برائے ہائی اسکول (CCHS)
- شہرپیما تعلیمی کونسل برائے خاص تعلیم (CCSE)
- شہر پیما کونسل برائے انگریزی زبان کے متعلمین (CELL)
- شہرپیما تعلیمی کونسل برائے ضلع 75 (CCD75)

## تعلیمی کونسلوں کے لیے انتخابات

تعلیمی کونسلوں کے لیے انتخابات نیویارک ریاست کے مخصوص کردہ قواعد کے مطابق ہر دو سال بعد ہوتے ہیں۔ درخواست دہی کا دورانیہ 14 فروری، 2019 سے شروع ہو رہا ہے۔ امیدواران کی قابلیت اور مہم کے شیڈول کے لیے اگلا صفحہ ملاحظہ کریں۔

# ہمارے اسکولوں کو آپ جیسے والدین کی ضرورت ہے۔

## تعلیمی کونسل اکثر پوچھے جانے والے سوالات و جوابات

کمٹی برائے تعلیمی کونسل (CEC) میں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟

اگر آپ ایک طالب علم کے والدین ہیں جو فی الوقت پری کنڈرگارٹن تا گریڈ 8 پبلک (غیر چارٹر) اسکول میں شرکت کرتا ہے ..... تو آپ اس ضلع کی CEC کے لیے انتخاب لڑ سکتے ہیں۔

شہر پیما کونسل برائے ہائی اسکول میں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟

اگر آپ ایک طالب علم کے والدین ہیں جو فی الوقت پبلک اسکول (غیر چارٹر) ہائی اسکول میں ہے ..... تو آپ اس برو کی نمائندگی کرنے والی CCHS کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں جس میں وہ ہائی اسکول واقع ہے۔

شہر پیما تعلیمی کونسل برائے انگریزی زبان کے متعلمین میں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟

اگر آپ فی الوقت یا پچھلے دو سالوں کے اندر ایک دولسانی یا ESL پروگرام میں ایک انگریزی زبان متعلم کے والدین ہیں ..... تو آپ CCELL کے لیے انتخاب لڑ سکتے ہیں۔

شہر پیما کونسل برائے خاص تعلیم میں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟

اگر آپ ایک ایسے طالب علم کے والدین ہیں جو فی الوقت خاص تعلیم خدمات موصول کرتا ہے جس کی محکمہ تعلیم کی جانب سے فراہمی یا ادائیگی کی جاتی ہے ..... تو آپ CCSE کے لیے انتخاب لڑ سکتے ہیں۔

شہر پیما کونسل برائے ضلع 75 میں کون خدمات انجام دے سکتا ہے؟

اگر آپ ایک ایسے طالب علم کے والدین ہیں جو ضلع 75 اسکول میں خاص تعلیمی خدمات موصول کر رہا ہے ..... تو آپ CCD75 کے لیے انتخابات لڑ سکتے ہیں۔

ان کونسلوں میں کون خدمات انجام نہیں دے سکتا ہے؟

آپ تعلیمی کونسل میں خدمات انجام نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ ایک سرکاری ملازم، DOE کے ملازم، پینل برائے تعلیمی پالیسی کے ممبر ہیں یا آپ کو کسی تعلیمی کونسل، PA/PTA, SLT یا صدور کی کونسل سے ہٹایا گیا تھا یا آپ کو مخصوص جرائم کے لیے مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔

اہلیت کا تعین کب کیا جاتا ہے؟

اہلیت کا تعین اس تاریخ سے کیا جاتا ہے جب آپ تعلیمی کونسل کی آسامی کے لیے انتخاب لڑنے کی درخواست جمع کروائیں۔

ہماری ڈاک کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے ای میل کریں:

Elections2019@schools.NYC.gov



2019 کے انتخابات کے لیے یاد رکھنے کی تواریخ

14 فروری - 6 مارچ: ایک کونسل میں درخواست دیں

19 مارچ: امیدواران کا اجلاس

25 مارچ - 1 مئی: امیدواران کے فورم میں شرکت کریں

2 مئی - 14 مئی: PA/PTA کے افسران کے ذریعے آن لائن ووٹنگ

21 مئی: انتخابات کے نتائج کا اعلان